

ضروری معلومات جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے اگر آپ کو کسی دیوانی قانون کی خلاف ورزی پر سمنز ملے:



تمام سماعتیں، ٹرائلز، اور دیگر OATH کے امور ٹیلی فون، ویڈیو کانفرنسنگ، آن لائن، یا میل کے ذریعے سر انجام دیے جا رہے ہیں، اور OATH کی جانب سے صرف پہلے سے منظور شدہ حالات میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت ہو گی۔

وہ کیسز جو سمنز یا ٹکٹس پر مشتمل ہوں:

سماعتیں:

آپ کی سماعت تب بھی آپ کی سماعت کی تاریخ پر منعقد ہو گی، لیکن آپ کو اپنی بذریعہ ٹیلی فون سماعت طے کرنے کے لیے OATH سے لازماً رابطہ کرنا ہو گا۔ بذریعہ فون اپنی سماعت طے کرنے کا سب سے آسان طریقہ nyc.gov/oathphone پر دستیاب فارم پُر کرنا ہے۔ براہ کرم اپنی درخواست اپنی طے شدہ سماعت سے کم از کم 3 دن قبل جمع کروائیں۔

یا پھر آپ اپنی بذریعہ ٹیلی فون سماعت اس جگہ ای میل کر کے طے کر سکتے ہیں جہاں آپ کی سماعت کا منعقد ہونا طے شدہ ہے۔ آپ کا سماعت کی تاریخ سے قبل OATH کو ای میل کرنا لازمی ہے۔

RemoteSI@oath.nyc.gov :Staten Island

RemoteBronx@oath.nyc.gov :Bronx

RemoteManhattan@oath.nyc.gov :Manhattan

RemoteBKLYN@oath.nyc.gov :Brooklyn

RemoteLIC@oath.nyc.gov :Queens

ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے تمام درخواستیں سماعت کی شیڈول کردہ تاریخ سے کم از کم (5) کاروباری ایام قبل لازمی livehearings@oath.nyc.gov پر ای میل کی جانی چاہئیں۔

آپ دفاع آن لائن یا ای میل کے ذریعے بھی جمع کروا کے جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے سمنز اس کی اجازت دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے nyc.gov/oath پر جائیں۔

اپنے کیس کو دوبارہ طے کرنا:

ہر سمنز کو ایک مرتبہ دوبارہ طے کیا جا سکتا ہے۔ اپنی سماعت کو دوبارہ طے کرنے کی درخواست کرنے کے لیے آپ کو لازماً nyc.gov/oath/reschedule پر موجود آن لائن فارم سماعت کی طے شدہ تاریخ سے قبل جمع کروانا ہو گا۔

اپنے کیس کے بارے میں متنی پیغام پر مبنی یاد دہانی وصول کرنے کے لیے 8829-451 (917) پر OATHreminder لکھ کر متنی پیغام بھیجیں۔

ادائیگیوں اور دیگر مسائل کے لیے:

ادائیگیوں OATH کی ویب سائٹ کے ذریعے nyc.gov/oath پر، یا بالمشافہ طور پر 66 John St., 10th Floor, Manhattan یا 31-00 47th Ave., 3rd Floor, Long Island City پر OATH کے دفاتر میں کی جا سکتی ہیں۔ ادائیگیوں یا طے کرنے کے عمل سے متعلق سوالات کے لیے clerksoffice@oath.nyc.gov پر ای میل کریں یا 1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692) پر کال کریں۔

OATH امدادی مرکز:

اگر آپ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ اپنے حقوق اور سماعت کے عمل کے بارے میں بالمشافہ مشاورت چاہتے ہیں، تو OATH پر (212) 436-0845 امدادی مرکز کو کال کریں یا Manhelpcenter@oath.nyc.gov پر ای میل کریں۔

- چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے لیے مختص کردہ مدد کے لیے: Smallbizhelp@oath.nyc.gov پر ای میل کریں
- تجربہ کار سبکدوش افراد کی معاونت کے لیے مختص کردہ مدد کے لیے: veteranshelp@oath.nyc.gov پر ای میل کریں
- بزرگ افراد کے لیے مختص کردہ مدد کے لیے: seniorshelp@oath.nyc.gov پر ای میل کریں

Mediating Establishment and Neighborhood Disputes (MEND NYC) کے بارے میں مزید جاننے کے لیے nyc.gov/mendnyc ملاحظہ کریں